



## ”تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے: اے اللہ! اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما“ اسے چاہیے کہ یقین کے ساتھ سوال کرے اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے: اے اللہ! اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما“ اسے چاہیے کہ یقین کے ساتھ سوال کرے اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا“ مسلم کی روایت میں ہے: ”اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے اور رغبت کا خوب اظہار کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز جسے وہ عطا کرتا ہے بھاری نہیں“  
[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو کسی چیز سے، حتیٰ کہ اللہ کی مشیت سے بھی، معلق کرنے سے منع فرمایا ہے کیوں کہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ اللہ اسی وقت معاف کرے گا، جب وہ معاف کرنا چاہے مشیت کی شرط رکھنا اس لیے بھی ہے کہ مشیت کی شرط اس کے بارے میں رکھی جاتی ہے، جس سے مشیت کے بغیر بھی فعل کا صدور ہو سکتا ہے جیسے جبر و اکراہ کے ساتھ فعل کا صدور لیکن اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے اخیر میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کوئی بھی چیز دینا اللہ کے لیے دشوار نہیں ہے اور کچھ بھی اس کے بس سے باہر نہیں ہے نیز یہ کہ مشیت سے معلق کر کے مغفرت طلب کرنا ایک طرح سے اللہ کی مغفرت سے استغنا کا اظہار ہے لہذا 'اگر تو دینا چاہے تو دے' کہنا دراصل یہ بتانا ہے کہ اسے یا تو ضرورت نہیں ہے یا پھر سامنے والا ہے بس سامنے والا قادر ہے اور مانگنے والا حاجت مند ہے، وہاں عزم و یقین کے ساتھ مانگا جاتا ہے اس لیے اللہ سے ایسے مانگنا چاہیے، جیسے ایک فقیر و حاجت مند ایک حاجت روا سے اپنی ضرورت مانگ رہا ہے اور اس سے لو لگا رہا ہے کیوں کہ وہ کامل غنی ہے اور قادر مطلق ہے

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/5978>

